

## سٹی آف برامپٹن پہلی بار اپنا پارکنگ پلان تیار کر رہا ہے

رہائشیوں، کاروباروں اور مقامی اسٹیک ہولڈرز کو اپنی قیمتی آراء دینے کی دعوت دی جاتی ہے

برامپٹن، آن (5 جنوری 2022) – چونکہ سٹی آف برامپٹن تیزی سے بڑھ رہا ہے، لہذا شہر میں لوگوں کی نقل و حمل کے طریقوں میں بھی مسلسل تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ بنیادی ڈھانچے کی منصوبہ بندی کو بہتر بنانے، پارکنگ کے وسائل کو منتظم کرنے اور رہائشیوں اور کاروباروں کی مستقبل کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد کے لیے، سٹی آف برامپٹن پہلی مرتبہ شہر بھر میں موجود پارکنگ کی سہولیات کا جائزہ لے رہا ہے۔

پارکنگ کی ضروریات سستی رہائش، ترقیاتی اخراجات اور زمین کے استعمال کی منصوبہ بندی پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ منصوبہ کمیونٹیز کو چلنے کی ایک مکمل اور محفوظ جگہ فراہم کرنے کے لیے رہائشیوں اور کاروباروں کی ضروریات کے ساتھ بہتر طور پر ہم آہنگ ہونے میں مدد فراہم کرے گا جو اس بات کو یقینی بنائے گا کہ سڑک استعمال کرنے والے تمام افراد کی ضروریات اور حفاظت پر غور کیا جائے اور انہیں مناسب طریقے سے جگہ دی جائے۔

اس عمل کے ذریعے، سٹی موجودہ چیلنجوں اور مواقع کا جائزہ لے گا اور دوسرے دائرہ اختیار میں معیار کے بہترین طریقے اپنانے کا جائزہ لے گا۔ برامپٹن پارکنگ پلان مستقبل کے لیے پالیسیوں اور مؤثر پارکنگ مینجمنٹ کے بارے میں رہنماء اصول اور سفارشات مرتب کرے گا۔

### برامپٹن پارکنگ پلان کا فروغ

منصوبے کا پہلا مرحلہ پارکنگ کے مسائل اور شہر کے وسیع تر اقتصادی، سماجی اور ماحولیاتی اہداف کے درمیان روابط کا جائزہ لے گا تاکہ اس حوالے سے پیش رفت کرنے کے لیے ایک وژن اور پالیسی فریم ورک تیار کیا جا سکے۔

اس کے دوسرے مرحلے میں شہر کے اندر پارکنگ کے لیے موجود کاروباری اور مالیاتی ماڈل کی سفارشات کو جائزہ کے لیے پیش کیا جائے گا۔

پارکنگ کی اپنی پہلی حکمت عملی میں معاونت حاصل کرنے کے لیے، سٹی آف برامپٹن نے IBI گروپ کی خدمات حاصل کی ہیں۔ یہ منصوبہ برامپٹن پلان اور ہاؤسنگ برامپٹن سمیت دیگر موجودہ حکمت عملیوں سے ہم آہنگ ہو گا۔

### اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کریں

رہائشیوں اور اسٹیک ہولڈرز بشمول کاروباروں، غیر منافع بخش گروپس کے علاوہ ٹیکسی اور ٹرکوں کی صنعتوں کو مطالعہ کے بارے میں مزید جاننے اور اپنی آراء فراہم کرنے کے لیے بروز جمعرات مورخہ 13 جنوری کو شام 6 سے 8 بجے تک ایک آن لائن نشست میں شرکت کے لیے مدعو کیا جا رہا ہے۔

آن لائن سروے بھی 28 جنوری تک دستیاب ہوں گے۔

اس موقع کے لیے رجسٹر ہونے، سروے مکمل کرنے اور مزید جاننے کے لیے، ملاحظہ کریں: [brampton.ca/parkingplan](http://brampton.ca/parkingplan)

اقتباسات

"حالیہ برسوں میں، برامپٹن نے عوامی نقل و حمل کے شعبے میں بے پناہ تیزی اور ٹرانزٹ کی سواریوں میں نمایاں اضافہ دیکھا ہے۔ جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ وابستہ ہوں تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہماری سڑکیں اس وقت کس طرح استعمال ہو رہی ہیں اور یہ کہ ہم مستقبل کے لیے بہترین منصوبہ بندی کیسے کر سکتے ہیں۔ میں ہر کسی کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ مشغولیت کی نشست میں ضرور شرکت کریں یا رائے فراہم کرنے اور اس عمل کا حصہ بننے کے لیے ہمارا سروے مکمل کریں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن پارکنگ پلان ہمیں مستقبل کے لیے ایک بہترین حکمت عملی بنانے کے لیے درکار معلومات فراہم کرے گا۔ ہم تمام رہائشیوں اور اسٹیک ہولڈرز سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس عمل میں حصہ لیں تاکہ یہ منصوبہ بنانے میں ہماری مدد کی جا سکے کہ برامپٹن کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہم پارکنگ کی ضروریات کو کیسے پورا کر سکتے ہیں۔"

- مارٹن میٹیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز 3 اور 4؛ چیئر، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن کا پارکنگ پلان ہمیں پارکنگ کے مواقع کی نشاندہی کرنے کے لیے ضروری معلومات فراہم کرے گا اور ایک بہتر اور زیادہ مؤثر طریقے سے منصوبہ بندی کرنے میں ہمیں مدد فراہم کرے گا۔ اپنے میونسپل پارٹنرز اور کمیونٹی کے اراکین کے ساتھ مل کر کام کرنے سے، ہم برامپٹن کی موجودہ اور مستقبل کی ضروریات کا عکاس ایک جامع منصوبہ تیار کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ [ٹویٹر](#)، [فیس بک](#) اور [انسٹاگرام](#) پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

پراجکٹ کینتھ

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Prabhjot.Kainth@brampton.ca](mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca)